

بیورو آف فراڈ انویسٹی گیشن (BUREAU OF FRAUD INVESTIGATION)

کیش اسسٹنس فراڈ ہم سب کو تکلیف دیتا ہے، خاص طور پر
ان لوگوں کو جنہیں واقعی مدد کی ضرورت ہے۔

فراڈ لائن کو اس نمبر پر کال کریں:
(718) 557-1399

NYC

**Department of
Social Services**

Human Resources
Administration
Department of
Homeless Services



BRC-151 (U)
Rev. 05/23

NYC Human Resources
Administration
Department of
Social Services

© کاپی رائٹ 2023، سٹی آف نیو یارک ہیومن ریسورسز ایڈمنسٹریشن/ٹیپارٹمنٹ آف سوشل سروسز۔
اس مواد کے کل یا بعض حصے کو دوبارہ پیش کرنے کی اجازت کے لیے نیو یارک سٹی کے ہیومن
ریسورسز ایڈمنسٹریشن سے رابطہ کریں۔

نقد امداد میں فراڈ آپ کے فوائد کو متاثر کر سکتا ہے

فراڈ اس وقت ہوتا ہے جب آپ خصوصی خدمات کے فوائد پانے کے واسطے حقائق کی غلط بیانی کرتے، انہیں چھپاتے یا پس پردہ رکھتے ہیں۔

فراڈ سے ان لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے جنہیں امداد درکار ہے، اس سے ٹیکس کے ڈالرز ضائع ہوتے ہیں اور عوام کو نقد امداد (Cash Assistance)، Medicaid اور تکملاتی تغذیاتی اعانت پروگرام (Supplemental Nutrition Assistance Program benefits) جیسی خدمات پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ فراڈ کی وجہ سے آپ کی ماہانہ گرانٹ میں اور تمام پروگراموں میں کٹوتی ہو سکتی ہے۔

مشتبہ فراڈ کی رپورٹ کریں

مسئلے کا حصہ نہ بنیں؛ تدبیر کا حصہ بنیں۔ اگر آپ کو کسی ایسے شخص کا علم ہے جو سسٹم کا بیجا استعمال کر رہا ہے تو BFI سے اس پر رابطہ کریں:

BFI FRAUD HOTLINE سے (718) 557-1399 پر

آن لائن: www.nyc.gov/hra

یا ہمیں اس پتے پر لکھیں:

BFI Complaint Unit

375 Pearl Street, 23rd Floor

New York, NY 10038

آپ کو ہمیں اپنا نام بتانا ضروری نہیں ہے اور ہمیں آپ کی دی ہوئی تمام معلومات خفیہ رہتی ہیں۔ آپ ہمیں جتنی زیادہ معلومات دے سکتے ہیں ہمیں فراڈ کو روکنے کا اہل ہونے کا اتنا ہی زیادہ امکان ہوتا ہے۔

آپ کو رپورٹ کرنا ضروری ہے

کل وقتی یا جز وقتی نوکریاں،
برونے اندراج یا ورائے اندراج

بے روزگاری بیمہ کے فوائد
(Unemployment)
(Insurance Benefits)

پتے کی تبدیلی

سوشل سیکیورٹی کے فوائد
یا پنشنز

اپنے خاندان یا گھرانے میں
موجود افراد کی تعداد میں تبدیلی

زندگی کا بیمہ

امداد اطفال کی ادائیگیاں

کار کی ملکیت

کارکنان کا معاوضہ (Worker's)
(compensation)

چیکنگ/سیونگز اکاؤنٹس

معذوری سے متعلق ادائیگیاں یا
سپلیمنٹل سیکیورٹی انکم

جانیداد کی ملکیت

سابق فوجی کے فوائد

آپ کو موصول ہونے
والی دیگر رقم

موقع کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ آپ گرفتار ہو سکتے ہیں

اگر آپ فراڈ کے مرتکب ہوتے ہیں:

- آپ جیل جا سکتے ہیں۔
- آپ کو وہ تمام رقم واپس کرنی پڑے گی جو آپ نے پرفریب طریقے سے حاصل کی۔
- آپ کو نقد امداد، تکملاتی تغذیاتی اعانت پروگرام، اور Medicaid کے فوائد حاصل کرنے سے روکا جا سکتا ہے۔

آپ کو کسی بھی ایسی معلومات کی رپورٹ کرنا ضروری ہے جس سے آپ کے فوائد متاثر ہو سکتے ہوں۔

اگر آپ درخواست کو مکمل طور پر اور ایمانداری سے پُر نہیں کرتے ہیں تو آپ نقد امداد میں فریب کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔

نقد امداد میں جرائم کے مرتکب افراد ان لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں جنہیں واقعی نقد امداد کی ضرورت ہے۔ ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ نقد امداد کے فوائد سے ضرورتمند لوگوں کو مدد ملتی ہو۔



BFI فراڈ سے کس طرح لڑتا ہے

بیورو آف فراڈ انویسٹی گیشن شرکاء اور دیگر افراد کے ذریعہ ارتکاب یافتہ نقد امداد، تکملاتی تغذیاتی اعانت پروگرام اور Medicaid کے فراڈ کی شکایتوں کی تفتیش کرتا ہے۔ ہر سال ہزاروں کیسز کی تفتیش کی جاتی ہے۔

BFI کے پاس انتہائی تربیت یافتہ پیشہ ور تفتیش کاران موجود ہیں جنہیں عوامی، نفاذ قانون کی متعدد ایجنسیوں اور سٹی کی دیگر ایجنسیوں سے معلومات حاصل ہوتی ہیں۔

آپ کو اپنی آمدنی، قیام کے انتظامات، پتہ، جانیداد یا ضروریات میں کسی بھی تبدیلی کی رپورٹ کرنا ضروری ہے۔ اپنے جاب سنٹر، تکملاتی تغذیاتی اعانت پروگرام سنٹر یا Medicaid آفس کو اسی وقت بتانا آپ کی ذمہ داری ہے۔

اپنی کمائی ہونی آمدنی اور/یا وسائل کی رپورٹ کرنا فائدہ مند ہوتا ہے!